

موسم کے بارے میں بات کرنا


A falar sobre o tempo

 Espen Stranger-Johannessen

 Ognjen Drageljević

 Yasir Tayyab

 2

 اردو ur / português pt

“سردیوں کے دن آرہے ہیں۔ درجہ حرارت کیسے ہے؟”

...

“Os dias estão a começar a ficar mais frios.
Quantos graus estão?”

”درجہ حرارت نو ڈگری ہے۔ ابھی تک موسم خزاں ہی ہے، لیکن
جلد ہی موسم سرہ آجئے گا۔”

...

“Estão nove graus. Ainda estamos no outono,
mas é quase inverno.”

“مجھے موسم بھر کا انتظار ہے، لیکن میں موسم گرہ کو زیدہ
پسند کرتا ہوں، جب یہ اچھا اور گرم ہوتا ہے۔”

...

“Estou ansioso pela primavera, mas prefiro o
verão, quando está bom tempo e calor.”

“مجھے سردی ۛ موسم بُرا نہیں لگتا۔ لیکن ہرش اور ہوا مجھے
پسند نہیں ہے۔”

...

“Eu não me importo com o frio. É da chuva e
do vento que eu não gosto.”

“ان سیدھ بدلوں کو دیکھو۔ کل جرش ہوگی۔ بہت تیز ہوائیں بھی
چلیں گی۔ شدید طوفان آئے گا۔”

...

“Olha para aquelas nuvens escuras. Amanhã
vai chover. Também vai estar muito vento.
Talvez haja uma tempestade.”

“میں امید کرڈ ہوں ایسڈ نہ ہو۔ مجھے اصل میں خراب موسم پسند نہیں ہے، ڈص طور پر ڈڈل کی گرج اور آسڈنی بجلی۔ مجھے ڈر ہوڈ ہے کہ آسڈنی بجلی مجھ پر نہ گر ڈئے۔”

...

“Espero que não. Não gosto nada do mau tempo, especialmente de trovões e relâmpagos. Tenho medo de ser atingido por um relâmpago.”





LIDA Stories


lidastories.net

موسم کے بارے میں بات کرنا

A falar sobre o tempo

 Espen Stranger-Johannessen

 Ognjen Drageljević

 Yasir Tayyab (ur), Elsa Teixeira (pt)

